



ایک انصاری شخص نے اپنے ایک غلام کو مدبّر قرار دیا

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص نے اپنے ایک غلام کو مدبّر (یعنی اسے اپنے مرزے کے بعد کی شرط کے ساتھ آزاد) قرار دیا ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ: نبی ﷺ کو اطلاع ملی کہ آپ ﷺ کے صحابہ میں سے ایک شخص نے بطور مدبر اپنے ایک غلام کو آزاد کر دیا اس شخص کے پاس اس غلام کے علاوہ کوئی اور مال نہیں تھا آپ ﷺ نے اس غلام کو آٹھ سو درہم کے عوض بیچ دیا اور اس کی قیمت اس (انصاری) کی طرف بھجوا دی

[صحیح] [متفق علیہ]

ایک انصاری آدمی نے اپنے غلام کی آزادی کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دیا (اسی کو غلاموں کی تدبیر کہتے ہیں) اس غلام کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا مال نہیں تھا جب نبی ﷺ تک یہ بات پہنچی تو آپ ﷺ نے اس آزادی کو تفریط گردانتے ہوئے اس کے اس فعل کی تائید نہیں فرمائی بلکہ آپ ﷺ نے اسے مسترد کرتے ہوئے اس غلام کو آٹھ سو درہم کے عوض بیچ دیا اور یہ درہم اس کی طرف بھیج دیئے اس شخص کا اپنی اور اپنے اول خانہ کی کفالت کرنا آزاد کرنے سے بہتر اور افضل تھا تاکہ وہ لوگوں کا دست نگر نہ ہو جائے اس طرح کی احادیث میں ایسے احکام ہوتے ہیں جن سے انسان کو واقف ہو نا چاہیے، اگرچہ وہ ان پر عمل نہ ہی کرے یہ مناسب نہیں کہ اس حجت کی بنا پر وہ انہیں سیکھنا اور سمجھنا ہی چھوڑ دے کہ آج کل غلام پائے ہی نہیں جاتے غلامی افریقہ کے بعض علاقوں میں ابھی بھی موجود ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ پھر سے رائج ہو جائے جب کہ یہ قدیم زمانہ سے لے کر اسلام کی آمد اور اس کے بعد تک موجود رہی ہے تاہم غلامی کی صورت میں اسلام حریت اور آزادی کی طرف میلان رکھتا ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/2966>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

